

برائے فوری اجراء

BHive برامپٹن اب کھل گیا ہے اور اگلے درجے کے جدت پسند کاروباروں کو کو زبردست تقویت پہنچانے کے لیے تیار ہے۔

برامپٹن، آن (21 مئی 2021) – گذشتہ روز برامپٹن نے BHive کے ورچوئل افتتاح کی میزبانی کی ہے، جو برامپٹن کے انویشن ڈسٹرکٹ میں بین الاقوامی کاروباری افراد کی آمد میں ایک نرم گوشے کا کردار ادا کرے گا۔

سٹی آف برامپٹن نے BHive کی صورت میں ایک پرکشش ترغیب کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد اگلی نسل کے جدت پسند کاروباری اداروں کو اعانت فراہم کرنا، ان کے سفر میں تیزی لانا اور انٹرپرائیوٹرز کے بارے میں مثبت تاثر کو اجاگر کرنا ہے اور مجموعی طور پر معیشت اور کمیونٹی کو اگلے درجے تک لے کر جانا ہے۔ ٹورینٹو بزنس ڈویلپمنٹ سنٹر کے اشتراک سے قائم کردہ BHive کا مقصد ایسی غیر ملکی انٹرپرائیوٹرز کو اپنی جانب راغب کرنا ہے جو [سٹارٹ اپ ویزا](#) کے ذریعے کینیڈا میں نئے اور وسعت پذیر کاروبار قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کامیاب درخواست دہندگان کو مستقل رہائش فراہم کی جائے گی اور ان کے 6 ماہ کے انکیوبیشن پروگرام کے دوران انہیں کئی مختلف وسائل فراہم کیے جائیں گے، بشمول دفتر کی جگہ، نیٹ ورکنگ کے مواقع اور کاروباری معاونت کی خدمات فراہم کرنا۔ انٹرپرائیوٹرز [یہاں](#) پر درخواست دے سکتے ہیں۔

سٹی کے انویشن ڈسٹرکٹ میں جاری ارتقاء، اس کی [معاشی بحالی کی حکمت عملی](#) کا ایک کلیدی حصہ ہے اور اس سے سٹی کو کووڈ-19 کی عالمی وباء کی وجہ سے معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نکلنے میں مدد دے گی۔ برامپٹن کے انویشن ڈسٹرکٹ میں BHive نے کئی انٹرپرائیوٹرز، انکیوبیشن اور ایکسلریٹر سہولتوں کے ساتھ شراکت داری کی ہے، بشمول برامپٹن انٹرپرائیوٹرز سنٹر، دی ریٹرنس کی زیر قیادت انویشن زون، دی ریسرچ انویشن کمرشل انڈرٹیکننگ (RIC) سنٹر، دی فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ، ایک سائبر سیکیورٹی ایکسلریٹر، راجرز سائبر سیکیورٹی کیٹیلسٹ کی زیر قیادت دی کیٹیلسٹ سائبر رینج اور ریٹرنس DMZ۔ انویشن ڈسٹرکٹ کے فروغ میں برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA بھی کلیدی شراکت دار ہیں۔

BHive کے متعلق مزید [یہاں](#) پر جانیں۔ سٹی کے انویشن ڈسٹرکٹ کے بارے میں [یہاں](#) پر جانیں۔

اقتباسات

"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور BHive کے آغاز کے بعد، ہم ایک ایسے ماحول کے ایسے مربوط نظام کا تسلسل برقرار رکھ سکیں گے جہاں پر انٹرپرائیوٹرز، انویشن ڈسٹرکٹ کو چھوڑے بغیر کمیونٹی اور مصنوعات کو ترتیب دے سکتے ہیں، ہنر مند افراد تلاش کر سکتے ہیں، سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں اور اپنی کمپنی کو درست سمت میں ڈال سکتے ہیں۔ برامپٹن اب حقیقی معنوں میں جدت میں لیڈر بننے کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ میں کامیابی کی ان عظیم کہانیوں کو سننے اور دیکھنے کا منتظر ہوں جو BHive اور ہمارے انویشن ڈسٹرکٹ میں شروع ہوں گی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن جدت میں قائد بننے کی راہ پر گامزن ہے اور مستقبل میں کئی نئی ملازمتیں پیدا کرے گا۔ ہمارے وسعت پذیر انویشن ڈسٹرکٹ میں BHive کا خیر مقدم کر کے، ہم نئے کاروباری اداروں کی آبیاری، مقامی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور انٹرپرائیوٹرز کے سفر کے ہر مرحلے میں ان کو مدد فراہم کرنے کی اپنی صلاحیتوں کو مستحکم کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کمیونٹی میں نئے کاروباری اداروں کا خیر مقدم کرنے اور انہیں پھلتا پھولتا دیکھنے کے منتظر ہیں۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے انویشن ڈسٹرکٹ میں جاری ارتقاء، اس کی [معاشی بحالی کی حکمت عملی](#) کا ایک کلیدی حصہ ہے اور اس سے ہمیں کووڈ-19 کی عالمی وباء کی وجہ سے معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ انویشن اور ٹیکنالوجی کا شعبہ معاشی ترقی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ BHive کا قیام نئی نسل کے جدت پسندوں کو تقویت پہنچانے گا، جس کی وجہ سے ہماری معیشت اور کمیونٹی پر بطور مجموعی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔"

- پال ویسیٹیٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن میں جدت طرازی کا ایک وسعت پذیر اور مربوط نظام، ایک ایسا انوویشن ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے ہمارے عملے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے جو بہترین شراکت داروں کو ایک میز پر لائے گا۔ BHive کے آغاز سے، ہم ٹوریٹو بزنس ڈیولپمنٹ سنٹر کی اضافی مہارتوں کو اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ میں لے کر آ گئے ہیں، جس میں ہر قسم کی صنعتوں کے لیے باہمی اشتراک، شراکت داری اور جدت تک رسائی کے اضافی مواقع موجود ہوں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"ہمیں سٹی آف برامپٹن کے نئے شروع کردہ انوویشن ڈسٹرکٹ کا حصہ ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے جو انٹرپرائیورز کے لیے ایک ایسا مربوط ماحول پیدا کرنے کے لیے علاقے کے اعلیٰ تعلیمی اداروں اور مستقبل کی سوچ رکھنے والی کمیونٹی کے رہنماؤں کے ساتھ شراکت داری میں کام کرے گا۔ BHive تجربہ کار کاروباری اداروں کی آمد کا منتظر ہو گا اور ان کی یہاں آمد اور وسعت اختیار کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ جدید کاروباروں میں ہماری سرمایہ کاری مستقبل کے کاروباروں کے علاوہ کینیڈا میں جدت طرازی کے باہمی طور پر مربوط نظام کی مجموعی ترقی میں بھی مفید ثابت ہو گا۔"

- وکرم کھرانہ، CEO برامپٹن BHive

"صحت مندانہ اور ایک مربوط کاروباری نظام کی کلید مہارتوں اور تجربات کے باہمی اشتراک میں مضمر ہے اور مختلف پس منظروں اور مہارتوں کے حامل لوگوں کو متحد کر کے ہم نہ صرف BHive کو مضبوط بنا سکیں گے بلکہ جدت طرازی کے ماحول کو بھی فروغ دیا جا سکے گا۔ نئی آنے والی انٹرپرائیورز کے لیے عالمی معیار کی ایک پروگرامنگ فراہم کرنے میں TBDC کی مہارت کے مطابق، ہم اس مشترکہ تجربے کو لانے اور BHive کی حمایت کرتے ہوئے جدت کے ساتھ ایک بہتر مستقبل کی تیاری کے منتظر ہیں، جس سے پورے خطے اور کینیڈا میں نمایاں شراکت کی فضاء پیدا ہو سکے گی۔"

- سویبی ریگنتھن، بورڈ ممبر، ٹوریٹو بزنس ڈیولپمنٹ سنٹر؛ سینئر کمپلائنس پارٹنر، 4S کنسلٹنگ سروسز آئی این سی۔

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca